



Nestlé Good food, Good life

Press Release

LAHORE, June 29, 2022

نیسلے پاکستان کے زیر اہتمام سوات میں ویسٹ مینجمنٹ اور پائیدار سیاحت پر تربیتی سیشن کا انعقاد

'Travel Responsibly for Experiencing Ecotourism in Khyber Pakhtunkhwa' (TREK) کچرے سے پاک مستقبل کیلئے ذمہ دار سیاحت کے فروغ کیلئے کے پی حکومت، ورلڈ بینک اور نیسلے کا مشترکہ منصوبہ ہے

لاہور: نیسلے پاکستان نے ٹورازم ڈیولپمنٹ حکومت خیبر پختونخوا کے اشتراک سے سوات میں ویسٹ مینجمنٹ اور پائیدار سیاحت پر دو روزہ تربیت کا اہتمام کیا۔

یہ تربیت (TREK) کامیونٹی کو مصروف عمل کرنے کے اقدام کا حصہ ہے۔ ٹریننگ کے دوران کچرے سے پاک مستقبل کے پائیدار ہدف کے فروغ کیلئے مقامی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی صلاحیت پر توجہ مرکوز کی گئی۔

مقامی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے 50 سے زائد شرکاء بشمول ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے منیجرز اور مالکان کی اس اقدام کے تحت ٹریننگ کی گئی۔ انٹریکٹو سیشنز میں کچرے کی درجہ بندی، ری سائیکلنگ کی اہمیت اور ویسٹ آڈٹ کی انجام دہی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سیشنز میں موضوعاتی لرننگ اور بینڈز آن ٹریننگ بھی شامل تھی۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے توصیف خالد، پراجیکٹ ڈائریکٹر، Khyber Pakhtunkhwa Integrated Tourism Development (KITE) نے کہا "ہمیں خوشی ہے کہ ذمہ دار شہری کچرے کے انتظام کے حوالے سے تربیت اور آگاہی مہم جیسی اجتماعی کمیونٹی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت خیبر پختونخواہ کا نیسلے پاکستان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ (TREK) کے ذریعے اشتراک خطے میں پائیدار سیاحت کے فروغ کے لیے ہماری مشترکہ کوشش کو مزید مضبوط کرے گا۔

اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وقار احمد، ہیڈ آف کارپوریٹ ایفئرز اینڈ سسٹین ایبلٹی، نیسلے پاکستان و افغانستان نے کہا کہ TREK پر حکومت پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری صاف ماحول کیلئے رویوں میں تبدیلی لا کر کچرے سے پاک مستقبل کی تشکیل کیلئے ہمارے وژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد دے گی۔

انہوں نے کہا "نیسلے میں یہ ہمارا وژن ہے کہ ہماری پیکجنگ بشمول پلاسٹک کے کچرے کو نہ زمین اور نہ سمندروں میں ٹھکانے لگایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے ہم 2025 تک ہماری 100 فیصد پیکجنگ کو ری سائیکل اور دوبارہ قابل استعمال بنانے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی فعال شرکت خطے میں معاشروں کیلئے وسیع سماجی خودمختاری کا مظہر ہے۔

نیسلے پاکستان کا TREK کیلئے عزم دو ستونوں پر مشتمل ہے۔ کچرے کے پھیلاؤ کو کم کرنے، دوبارہ قابل استعمال بنانے اور ری سائیکل کرنے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم اور دوسرا کمیونٹی کو مصروف عمل کرنے کا پلان جس میں دو سرگرمیاں شامل ہیں جو کچرے، آلودگی اور جنگلی حیات کے خاتمے کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دیں گی۔ یہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف 12، 13، 15، 17 کے مطابق ہے۔ معاشرے کو بالاختیار اور لوگوں کو ذمہ دار شہری بنانا نیسلے کے طرز عمل کا کلیدی حصہ ہے تاکہ انہیں دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاسکے۔

تقریب کے اختتام پر شرکاء میں دوبارہ قابل استعمال بیگز اور ذمہ دار سیاحت کے بارے میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کئے گئے اور ان کی ریسورسز کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے کلچر کے فروغ کیلئے کردار ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے زمینی اور فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تقریب کا اختتام توصیف خالد، پراجیکٹ ڈائریکٹر، KITE کی طرف سے سووینرز اور سرٹیفکیٹس کی تقسیم سے ہوا۔

For further information, please contact:

Zeeshan Suhail

Public Affairs Manager – North region

Nestlé Pakistan

zeeshan.suhail@pk.nestle.com

0333 528 4499